



سوال

خاوند سے خلع طلب کرنے کے مباح عذر کی مثالیں

جواب

الحمد لله

یہ سوال میں نے اپنے استاد اور شیخ جناب عبداللہ بن عبدالرحمن بن جبرین کے سامنے پیش کیا تھا انہوں نے مجھے درج ذیل جواب دیا:

اول:

جب عورت اپنے خاوند کا اخلاق پسند نہ کرتی ہو، مثلاً خاوند میں شدت و سختی پائی جاتی ہو اور حدت ہو اور وہ جلد متاثر ہو جاتا ہو، اور کثرت غضب والا ہو، اور چھوٹی سی بات پر تنقید کرنے لگے، اور ادنیٰ سی غلطی پر سزا دینے لگے تو اس عورت کو خلع لینے کا حق حاصل ہے

دوم:

جب عورت اپنے خاوند کی خلقت ناپسند کرتی ہو یعنی اس میں کوئی پیدائشی عیب اور بد صورتی ہو، یا جو اس میں نقص پایا جائے تو عورت کو خلع حاصل کرنے کا حق حاصل ہے

سوم:

اگر خاوند ناقص دین ہو یعنی نماز ترک کرتا ہو، یا پھر نماز باجماعت ادا کرنے سے سستی کرتا ہو، یا پھر رمضان المبارک میں بغیر کسی عذر کے روزہ نہ رکھے، یا حرام کاموں میں جانا ہو مثلاً زنا اور شراب نوشی اور گانے بجانے کی محفل وغیرہ میں جانا ہو تو بھی عورت کو خلع طلب کرنے کا حق حاصل ہے

چہارم:

جب خاوند اپنی بیوی کو اخراجات نہ دے یا لباس نہ دے یا ضروریات کی اشیاء نہ دیتا ہو اور خاوند یہ اشیاء دینے پر قادر بھی ہو تو عورت کو خلع طلب کرنے کا حق حاصل ہے

پنجم:

جب بیوی کو عمومی اور عادت والا حق معاشرت نہ دیتا ہو جس میں بیوی کو عفت حاصل ہو، یعنی خاوند وطی کرنے پر قادر نہ ہو اور اس میں عیب پایا جائے، یا پھر وہ بیوی کو نہ چاہتا ہو یا وہ کسی دوسری کی طرف مائل ہو اور اس سے رکا رہے، یا وہ بیویوں کے مابین میت یعنی رات بسر کرنے میں عدل نہ کرتا ہو تو عورت کو خلع طلب کرنے کا حق حاصل ہے۔"